



سوال

(265) مصافحہ کرنے کا طریقہ

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

مصافحہ دونوں ہاتھ سے کرنا چاہیے یا صرف دائیں ہاتھ سے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

مصافحہ صرف دائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے کہ یہ سنت ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرنا سنت نہیں ہے، کیوں کہ یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے (عبداللہ بن بسر قال تزون ید ید ید ید صافحہ ہذا رسول اللہ النجدی رجلاً کلّم ثقاتاً وانشأہ مُتَّصِلًا

أنا الحافظ بن عبد البر فہو لہذا صحیحہ کما فی تذکرۃ الحفظ وأنا عبد الوارث بن سفیان فہو من شیوخہ الکبار قد اکثر الروایۃ عنہ فی معرض الاحتجاج فی التسمیة والاستیعاب وغیرہما واما بن وضاح فاسنہ محمد قال فی تذکرۃ الحفظ ہوا الحافظ الکبیر أبو عبد اللہ الفرطبی قال بن الفرضی کان عالماً بالحدیث بصیراً بظرفہ مُتَّكِلًا بعلیہ وکان أحمد بن النجیب لا یقرّم علیہ أحدًا ممن أذکرہ انشی

وقد صحّ بن القطان انشاء الحدیث برضا عنہ وقع فیہ محمد بن وضاح ہذا حدیث قال ولہ انشاء صحیح من روایۃ سنن بن سعد

قال قاسم بن اسیح حدیثنا محمد بن وضاح حدیثنا ابو علی عبد الصمد بن ابی سکیتہ حدیثنا عبد العزیز بن ابی عازم عن ابیہ عن سنن بن سعد قال قالوا یا رسول اللہ انک متوضاً من برضا عنہ یخ

ذکر الحافظ الریثلی کلام بن القطان ہذا فی تخریج البدایہ وأقرہ وأنا یعقوب بن کعب ومشر بن اسماعیل وحنان بن نوح فہم ایضاً ثقات فانحدیث صحیح ورواہ الحافظ الدولابی فی کتابہ الأسماء والنکنی

قال حدیثنا ابو ہاشم زید بن ائوب قال حدیثنا بشر بن اسماعیل النخعی عن ابی معاویہ حسان بن نوح قال سمعت عبد اللہ بن بسر یقول تزون ہذا ید فانی وضعنا علی ید رسول اللہ النجدی رجلاً ثقات إلا الحافظ الدولابی فقال الدار قطنی تکلموا فیہ وما یتبین من امرہ إلا خیر

وقال ابو سعید بن یونس کان ابو بشر یعنی الدولابی من اہل الصنیۃ وکان یضعف کذا فی تذکرۃ الحفظ ولہ حدیث عبد اللہ بن بسر ہذا حدیث ابی انا مہ تمام الشیبی الاخذ بالیہ والنصافۃ بالیمنی رواہ النجاشی فی النکنی کذا فی کفر النعمان ولہ حدیثنا حدیثنا انس بن مالک قال صافحہ بحفی ہذا کث رسول اللہ فما مست خزا ولا حریر الین من کفر ذکرہ الشیخ محمد عابد السنہ فی حضر الشارود والنفاضی الشوکانی فی انشاف الاکابر وہذان الحدیثان انما ذکرنا ہما للتأیید والاستشہاد ولان فی اسانیدہما ضغفًا وکلانا والذلیل الثانی علی ما قلنا من ان الشیبی فی النصافۃ ان تتكون بالیمنی سواء کانت عند اللقاء أو



عند البيهقي رواه مسلم في صحيحه عن عمرو بن العاص قال أتيت النبي فقلت انبط يمينك فلأبايعك فمسط يمينه فقبضت يدي فقال مالك يا عمرو قلت أردت أن أشرط قال تشرط بماذا قلت أن
يغفر لي قال أنا علمت يا عمرو أن الإسلام يندم ما كان قبلة الحديث

ورواه أبو عوانة في صحيحه وفيه فقلت يا رسول الله البسط يدك لأبايعك فمسط يمينه قال القاري في المرقاة في شرح هذا الحديث البسط يمينك أي افحشا وندما لا يصح معنى عليهما كما هو العادة في البيهقي انتهى
وهذا الحديث نص صريح في أن الشئ في المصافحة عند البيعة باليد اليمن من الجانبين وقد صححت في هذا الحديث كثيرة ذكرنا في رسالتنا المسماة بالفتاوى الحسينية في مصافحة باليد اليمنى

فمبنا رواه أحمد في مسنده بإسناد

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

فتاوى شيخ الحديث مباركپوری

جلد نمبر 2 - کتاب جامع الاشتات والمتفرقات

صفحہ نمبر 503

محدث فتویٰ